

ہوم ورک کرنے اور پڑھائی کے طریقوں میں مہارت کی تصدیقی فہرست

Homework-Study Skills Checklist
Urdu Translation

طلباء کے لیے پڑھائی کے طریقوں میں مہارت حاصل کرنے کی تصدیقی فہرست (جو کام کرتے ہوں، اس پر تصدیق کا نشان لگا دیں)

- میں روزانہ کلاس میں ضرورت کا سامان لے کر آتا / آتی ہوں: پنسل / قلم، کاغذ، نصابی کتاب، کاپی۔
- میں وقت پر کلاس آتا / آتی ہوں۔
- جب کلاس شروع ہوتی ہے میں پڑھائی کے لیے تیار ہوتا / ہوتی ہوں۔
- جو ہوم ورک ملتا ہے اسے پلانر (planner) یا کاپی میں لکھ لیتا / لیتی ہوں۔
- روزانہ شام میں سکول سے ہوم ورک ختم کرنے کے کا سامان گھر لے کر آتا / آتی ہوں۔
- میں کام ختم کر کے وقت پر استاد کو دیتا / دیتی ہوں۔
- میں اپنی کاپی / کاپیاں سلیقے سے رکھتا / رکھتی ہوں۔
- میں کلاس میں فعال طریقے سے حصہ لیتا / لیتی ہوں۔
- ضرورت پڑنے پر میں استاد سے مدد لیتا / لیتی ہوں۔
- اگر میں غیر حاضر ہوں، تو میں کلاس میں کسی کو جاننا / جانتی ہوں جسے فون کر کے اس دن ملا ہوم ورک لے لوں۔
- میں خود سے سوال بنا کر پڑھتا / پڑھتی ہوں۔
- مجھے ایسے طریقے معلوم ہیں جن کی مدد سے میں اہم اصطلاحات اور اصول یاد کر سکوں۔
- میں اپنے انٹیرم (سال کی درمیانی رپورٹیں) اور رپورٹ کارڈ اپنے والدین کو دکھاتا / دکھاتی ہوں۔
- میرے والدین میرے انٹیرم اور رپورٹ کارڈ پر دستخط کرتے ہیں اور میں وہ سکول لوٹاتا / لوٹاتی ہوں۔
- میں اپنے ذاتی ہدف (goal) بناتا / بناتی ہوں۔

طلباء کے لیے ہوم ورک (گھر پر کرنے کا سکول کا کام) کرنے کی تصدیقی فہرست (جو کام کرتے ہوں، اس پر تصدیق کا نشان لگا دیں۔)

- میں ایک خاموش کمرے میں میز یا ڈیسک پر کام کرتا / کرتی ہوں۔
- میرے پاس ہوم ورک کرنے کا سب سامان موجود ہے۔
- میں اپنے پلانر (planner) یا کاپی میں لکھے ہوئے ہوم ورک کی فہرست کو دیکھتا / دیکھتی ہوں۔
- میں زیادہ مشکل کام پہلے کرتا / کرتی ہوں۔
- میں تمام ہدایات پڑھتا / پڑھتی ہوں۔
- اگر مجھے کسی کام میں مشکل محسوس ہو تو میں کلاس میں لیے نوٹ دوبارہ دیکھتا / دیکھتی ہوں اور / یا کسی بڑے سے مدد لیتا / لیتی ہوں۔
- میں اپنا تمام ہوم ورک مناسب وقت میں ختم کرتا / کرتی ہوں۔
- میں اپنے کام کو درستگی اور صفائی کے لیے دوبارہ دیکھتا / دیکھتی ہوں۔
- میں اپنا تمام مکمل شدہ کام ایک کاپی میں رکھتا / رکھتی ہوں اور سکول کے اگلے دن کے لیے چیزیں ترتیب سے رکھ لیتا / لیتی ہوں۔
- میں رات کو اچھی نیند سوتا / سوتی ہوں۔
- میں اپنا ہوم ورک وقت پر استاد کے حوالے کرتا / کرتی ہوں۔